

القرآن الكريم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطاں کے شر سے

المنزل-۷

آیائہا - ۳۹۹ , رُكُوْ عَاتِهَا - ۲۰

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ - ۲۷

رُكُوْ عَاتِهَا-۳

سُوْرَةُ الدَّارِيَاتِ(مکی)

آیائہا-۶۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

المنزل-۶
قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ①

فرمایا اے رسولو! تمہارا کیا مطلب ہے ①

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ②

انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں ②

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ ③

تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں ③

مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ④

وہ آپ کے رب کی طرف حد سے بڑھنے والوں کے لیے مقرر ہو چکے ہیں ④

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ⑤

پھر ہم نے نکال لیا جو بھی وہاں ایمان دار تھا ⑤

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ⑥

پھر ہم نے وہاں سوائے مسلمانوں کے ایک گھر کے نہ پایا ⑥

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝^{٣٧}

اور ہم نے اس واقعہ میں ایسے لوگوں کے لیے ایک عبرت رہنے دی ۝^{٣٧}
جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں

وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۝^{٣٨}

اور موسیٰ کے قصہ میں بھی عبرت ہے جب کہ ہم نے فرعون کے پاس
س ایک کھلی دلیل دے کر بھیجا

فَتَوَلَّىٰ بُرْكُنَيْهِ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ۝^{٣٩}

سو اس نے مع اپنے ارکانِ سلطنت کے سرتابی کی اور کہا یہ جادوگر
یا دیوانہ ہے

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ۝^{٤٠}

پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا پھر ہم نے انہیں
سمندر میں پھینک دیا اور اس نے کام ہی ملامت کا کیا تھا

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَةَ ۝^{٤١}

اور قوم عاد میں بھی (عبرت ہے) جب ہم نے ان پر سخت آندھی
بھیجی

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّمِيمِ ۝^{٤٢}

جو کسی چیز کو نہ چھوڑتی جس پر سے وہ گزرتی مگر اسے
بوسیدہ ہڈیوں کی طرح کر دیتی

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾

اور قوم ثمود میں بھی (عبرت ہے) جب ہ ان سے کہا گیا ایک وقت ﴿٤٣﴾
معین تک کا فائدہ اٹھاؤ

فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٤٤﴾

﴿٤٤﴾ پھر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی تو ان کو بجلی نے
آپکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے

فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُتَّصِرِينَ ﴿٤٥﴾

﴿٤٥﴾ پھر نہ تو وہ اٹھ ہی سکے اور نہ وہ بدلہ ہی لے سکے ﴿٤٥﴾

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿٤٦﴾

اور قوم نوح کو اس سے پہلے (ہلاک کر دیا) بے شک وہ نافرمان ﴿٤٦﴾
اع لوگ تھے

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾

اور ہم نے آسمان کو قدرت سے بنایا اور ہم وسیع قدرت رہنے والے ﴿٤٧﴾
ہیں

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهْدُونَ ﴿٤٨﴾

﴿٤٨﴾ اور ہم نے ہی زمین کو بچھایا پھر ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں ﴿٤٨﴾

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

﴿٤٩﴾ اور ہم نے ہی ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم غور کرو ﴿٤٩﴾

فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ إِنَّ لَكُمْ مِنْهُ نَدِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

پھر اللہ کی طرف دوڑو بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ﴿٥٠﴾
کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنَّ لَكُمْ مِنْهُ نَدِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾

اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھراؤ بے شک میں تمہارے ﴿٥١﴾
لئے اس کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں

كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٥٢﴾

اسی طرح ان سے پہلوں کے پاس بھی جب کوئی رسول آیا تو انہوں ﴿٥٢﴾
نے یہی کہا کہ یہ جادوگر یا دیوانہ ہے

أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾

کیا ایک دوسرے سے یہی کہ مرے تھے نہیں بلکہ وہ خود ہی سرکش ﴿٥٣﴾
ہیں

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾

پس آپ ان کی پرواہ نہ کیجیئے آپ پر کوئی الزام نہیں ﴿٥٤﴾

وَذِكْرٌ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

اور نصیحت کرتے رہیئے بے شک ایمان والوں کو نصیحت نفع دیتی ﴿٥٥﴾
ہے

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

اور میں نے جن اور انسان کو بنایا ہے تو صرف اپنی بندگی کے لیے ﴿۵۶﴾

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ ﴿۵۷﴾

میں ان سے کوئی روزی نہیں چاہتا ہوں اور نہ ہی چاہتا ہوں کہ وہ ﴿۵۷﴾
مجھے کھلائیں

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿۵۸﴾

بے شک اللہ ہی بڑا روزی دینے والا زبردست طاقت والا ہے ﴿۵۸﴾

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿۵۹﴾

پس بے شک ان کے لیے جو ظالم ہیں حصہ ہے جیسا کہ ان کے ﴿۵۹﴾
ساتھیوں کا حصہ تھا تو وہ مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کریں

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿۶۰﴾

پس ہلاکت ہے ان کے لیے جو کافر ہیں اس دن جس کا ان سے وعدہ ﴿۶۰﴾
ع کیا جاتا ہے

رُكُوْعَاتُهَا- ۲	سُورَةُ الطُّورِ (مَكِّي)	آيَاتُهَا- ۴۹
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	
	شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے	

الْمَنْزِلَةُ الطُّورِ ۱

قسم ہے طور کی ۱

وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ۲

اور اس کتاب کی جو لکھی گئی ہے ﴿۲﴾

فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ ۝^۳

کشادہ ورقوں میں ۝^۳

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۝^۴

اور آباد گھر کی قسم ہے ۝^۴

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۝^۵

اور اونچی چھت کی ۝^۵

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۝^۶

اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی ۝^۶

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝^۷

بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا ۝^۷

مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ۝^۸

اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے ۝^۸

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۝^۹

جس دن آسمان تھرتھرا کر لرزنے لگے گا ۝^۹

وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۝^{۱۰}

اور پہاڑ تیزی سے چلنے لگیں گے ۝^{۱۰}

فَوَيْلٌ لِلْيَوْمِئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ^{١١}

پس اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے^①

الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ^②

جو جھوٹی باتوں میں لگے ہوئے کھیل رہے ہیں^②

يَوْمَ يُدْعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً^③

جس دن وہ دوزخ کی آگ کی طرف بری طرح سے دھکیلے جائیں^③
گے

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ^④

یہی وہ آگ ہے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے^④

أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ^⑤

پس کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں^⑤

إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ^⑥

اس میں داخل ہو جاؤ پس تم صبر کرو یا نہ کرو تم پر برابر ہے تمہیں^⑥
تو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم کرتے تھے

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ^⑦

بے شک پرہیز گار باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے^⑦

فَكَهَيْنَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَّهْمُ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ^⑧

محفوظ ہو رہے ہوں گے اس سے جو انہیں ان کے رب نے عطا کی ⑱
ہے اور ان کو ان کے رب نے عذاب دوزخ سے بچا دیا ہے

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑲

مزے سے کھاؤ اور پیو بدلے ان (اعمال) کے جو تم کیا کرتے تھے ⑲

مُتَّكِنِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ⑳

تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے جو قطاروں میں بچھے ہوئے ہیں اور ہم ⑳
ان کا نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ
عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۗ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ㉑

اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی ㉑
کی ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی (جنت) میں ملا دیں گے اور ان
کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہ کریں گے ہر شخص اپنے عمل کے
ساتھ وابستہ ہے

وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ㉒

اور ہم انہیں اور زیادہ میوے دیں گے اور گوشت جو وہ چاہیں گے ㉒

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَعْوُ فِيهَا وَلَا تَأْتِيمٌ ㉓

وہاں ایک دوسرے سے شراب کا پیالہ لیں گے جس میں نہ بکواس ہو ㉓
گی نہ گناہ کا کام

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾

اور ان کے پاس لڑکے ان کی خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے گویا ﴿٢٤﴾
وہ غلافوں میں رکھے ہوئے موتی ہیں

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٥﴾

اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں پوچھیں گے ﴿٢٥﴾

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾

کہیں گے ہم تو اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرا کرتے تھے ﴿٢٦﴾

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَدْنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾

پس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا ﴿٢٧﴾

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾

بے شک ہم اس سے پہلے اسے پکارا کرتے تھے بے شک وہ بڑا ہی ﴿٢٨﴾
رحم احسان کرنے والا نہایت رحم والا ہے

فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾

پس نصیحت کرتے رہئے آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ ﴿٢٩﴾
دیوانہ ہیں

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ ﴿٣٠﴾

کیا وہ کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے ہم اس پر گردشِ زمانہ کا انتظار کر ﴿٣٠﴾
رہے ہیں

قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ^ط ③١

کہہ دو تم انتظار کرتے رہو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ③١ ہوں

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ^ج ③٢

کیا ان کی عقلیں انہیں اس بات کا حکم دیتی ہیں یا وہ خود ہی سرکش ③٢ ہیں

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ^ج بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ^ج ③٣

یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود بنا لیا ہے بلکہ وہ ایمان ہی نہیں ③٣ لاتے

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ^ط ③٤

پس کوئی کلام اس جیسا لے آئیں اگر وہ سچے ہیں ③٤

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ^ط ③٥

کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود خالق ہیں ③٥

أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ^ج بَلْ لَا يُوقِنُونَ^ط ③٦

یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے نہیں بلکہ وہ یقین ہی نہیں ③٦ کرتے

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ^ط أَمْ هُمُ الْمُضْطَرُونَ^ط ③٧

کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ داروغہ ہیں ③٧

أَمْ لَهُمْ سُلْمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلَيَاتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۝^{٣٨}

کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ وہ اس پر چڑھ کر سن آتے ہیں ۝^{٣٨}
تو لے آئے ان میں سے سننے والا کوئی دلیل واضح

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبُنُونَ ۝^{٣٩}

کیا اس کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ۝^{٣٩}

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّعْرَمٍ مَثْقَلُونَ ۝^{٤٠}

کیا آپ ان سے کوئی صلہ مانگتے ہیں کہ وہ تاوان سے دبے جا رہے ۝^{٤٠}
ہیں

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ۝^{٤١}

یا ان کے پاس علم غیب ہے کہ وہ اسے لکھتے رہتے ہیں ۝^{٤١}

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ ۝^{٤٢}

کیا وہ کوئی داؤ کرنا چاہتے ہیں پس جو منکر ہیں وہی داؤ میں آئے ۝^{٤٢}
ہوئے ہیں

أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝^{٤٣}

کیا سوائے اللہ کے ان کا کوئی اور معبود ہے اللہ اس سے پاک ہے جو ۝^{٤٣}
وہ شریک ٹھہراتے ہیں

وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ۝^{٤٤}

اگر وہ ایک ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا دیکھ لیں تو کہہ دیں کہ تہ بہ تہ ④
جما ہوا بادل ہے

فَذَرَّهُمْ حَتَّىٰ يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ④

پس آپ انہیں چھوڑ دیجیئے یہاں تک کہ وہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس ④
میں وہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ④

جس دن ان کا داؤ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ انہیں مدد دی ④
جائے گی

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ④

اور بے شک ان ظالموں کو علاوہ اس کے ایک عذاب (دنیا میں) ہوگا ④
لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ④

اور اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کر کیوں کہ بے شک آپ ہماری ④
آنکھوں کے سامنے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیئے
جب آپ اٹھا کریں

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ④

اور (کچھ حصہ رات میں بھی) اس کی تسبیح کیا کیجیئے اور ④

ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝۱

ستارے کی قسم ہے جب وہ ڈوبنے لگے ①

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝۲

تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے ②

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝۳

اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے ③

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝۴

یہ تو وحی ہے جو اس پر آتی ہے ④

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝۵

بڑے طاقتور (جبرائیل) نے اسے سکھایا ہے ⑤

ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۝۶

(جو بڑا زور آور ہے پس وہ قائم ہوا) اصلی صورت میں ⑥

وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۝۷

اور وہ (آسمان کے) اونچے کنارے پر تھا ⑦

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۝۸

پھر نزدیک ہوا پھر اور بھی قریب ہوا ⑧

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۙ ﴿٩﴾

پھر فاصلہ دو کمان کے برابر تھا یا اس سے بھی کم ﴿٩﴾

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۙ ﴿١٠﴾

پھر اس نے اللہ کے بندے کے دل میں القا کیا جو کچھ القا کیا دل نے ﴿١٠﴾

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۙ ﴿١١﴾

جھوٹ نہیں کہا تھا جو دیکھا تھا ﴿١١﴾

أَفْتُمِرُونَ عَلَىٰ مَا يُرَىٰ ۙ ﴿١٢﴾

پھر جو کچھ اس نے دیکھا تم اس میں جھگڑتے ہو ﴿١٢﴾

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۙ ﴿١٣﴾

اور اس نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے ﴿١٣﴾

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۙ ﴿١٤﴾

سدرۃ المنتہیٰ کے پاس ﴿١٤﴾

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۙ ﴿١٥﴾

جس کے پاس جنت الماویٰ ہے ﴿١٥﴾

إِذْ يَغْشَىٰ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۙ ﴿١٦﴾

(جب کہ اس سدرۃ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا (یعنی نور) ﴿١٦﴾

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۙ ﴿١٧﴾

نہ تو نظر بہکی نہ حد سے بڑھی ⑰

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ⑱

بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں ⑱

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ⑲

پھر کیا تم نے لات اور عزی کو بھی دیکھا ہے ⑲

وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةِ الْاُخْرَى ⑳

(اور تیسرے منات گھٹیا کو) دیکھا ہے ⑳

الْكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى ㉑

کیا تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں ہیں ㉑

تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى ㉒

تب تو یہ بہت ہی بری تقسیم ہے ㉒

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ إِنْ

يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ ㉓

یہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ ㉓

لیے ہیں جن پر خدا نے کوئی سند بھی نہیں اتاری وہ محض وہم اور اپنی

خواہش کی پیروی کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کے ہاں

سے ہدایت آچکی ہے

أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى ㉔

⑳

پھر کیا انسان کو وہی مل جاتا ہے جس کی تمنا کرتا ہے ②④

فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ②⑤

ع پس آخرت اور دنیا اللہ ہی کے اختیار میں ہے ②⑤

وَ كُمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ

لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ②⑥

اور بہت سے فرشتے آسمان میں ہیں کہ جن کی شفاعت کسی کے ②⑥
کچھ بھی کام نہیں آتی مگر اس کے بعد کہ اللہ جس کے لیے چاہے
اجازت دے اور پسند کرے

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةً الْاُنْثٰى ②⑦

بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کے عورتوں ②⑦
کے سے نام رکھتے ہیں

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ②⑧

اور اس بات کو کچھ بھی نہیں جانتے محض وہم پر چلتے ہیں اور وہم ②⑧
حق بات کی جگہ کچھ بھی کام نہیں آتا

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلٰٓى ۗ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيٰٓ ②⑨

پھر تم اس کی پرواہ نہ کرو جس نے ہماری یاد سے منہ پھیر لیا ہے ②⑨
اور صرف دنیا ہی کی زندگی چاہتا ہے

ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ اهْتَدَى ③٠

ان کی سمجھ کی یہیں تک رسائی ہے بے شک آپ کا رب اس کو ③٠
خوب جانتا ہے جو اس کے راستہ سے بہکا اور اس کو بھی خوب جانتا
ہے جو راہ پر آیا

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ
الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحَسَنٰى ③١

اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے تاکہ برا کرنے ③١
والوں کو ان کے بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نیک بدلہ دے

الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبِيْرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ اِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ
اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا
اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اَتَقٰى ③٢

وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں مگر ③٢
صغیرہ گناہوں سے بے شک آپ کا رب بڑی وسیع بخشش والا ہے وہ
تمہیں خوب جانتا ہے جب کہ تمہیں زمین سے پیدا کیا تھا اور جب کہ تم
اپنی ماں کے پیٹ میں بچے تھے پس اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو وہ
پرہیزگار کو خوب جانتا ہے

اَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلٰى ③٣

بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا ③٣

وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ③④

اور تھوڑا سا دیا اور سخت دل ہو گیا ③④

أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهَوْ يَرَى ③⑤

کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے ③⑤

أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ③⑥

کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ③⑥
ہیں

وَأَبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ③⑦

اور ابراہیم کے جس نے (اپنا عہد) پورا کیا ③⑦

الَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ③⑧

وہ یہ کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ③⑧

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ③⑨

اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو کرتا ہے ③⑨

وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى ④①

اور یہ کہ اس کی کوشش جلد دیکھی جائے گی ④①

ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ④②

پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا ④②

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ④٢

اور یہ کہ سب کو آپ کے رب ہی کی طرف پہنچتا ہے ④٢

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ④٣

اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے ④٣

وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا ④٤

اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے ④٤

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ④٥

اور یہ کہ اسی نے جوڑا نر اور مادہ کا پیدا کیا ہے ④٥

مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ④٦

ایک بوند سے جب کہ وہ ٹپکائی جائے ④٦

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْآخِرَىٰ ④٧

اور یہ کہ دوسری بار زندہ کر کے اٹھانا اسی کے ذمہ ہے ④٧

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ④٨

اور یہ کہ وہی غنی اور سرمایہ دار کرتا ہے ④٨

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشُّعْرَىٰ ④٩

اور یہ کہ وہی شعری کا رب ہے ④٩

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ⑤٠

اور یہ کہ اسی نے عاد اولیٰ کو ہلاک کیا تھا ﴿۵۰﴾

وَتَمُودًا فَمَا أَبْقَىٰ ﴿۵۱﴾

اور تمود کو پس اسے باقی نہ چھوڑا ﴿۵۱﴾

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿۵۲﴾

اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو بے شک وہ زیادہ ظالم اور زیادہ ﴿۵۲﴾
سرکش تھے

وَالْمُوتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿۵۳﴾

اور الٹی بستی کو اس نے دے ٹپکا ﴿۵۳﴾

فَغَشَّهَا مَا غَشَّىٰ ﴿۵۴﴾

پس اس پر وہ (تباہی) چھا گئی جو چھا گئی ﴿۵۴﴾

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿۵۵﴾

پس اپنے رب کی کون کون سی نعمت میں تو شک کرے گا ﴿۵۵﴾

هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِيرِ الْأُولَىٰ ﴿۵۶﴾

یہ بھی ایک ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں میں سے ﴿۵۶﴾

أَزِفَتِ الْأُزْفَةُ ﴿۵۷﴾

آنے والی قریب آ پہنچی ﴿۵۷﴾

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿۵۸﴾

سوائے اللہ کے اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ⑤۸

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ⑤۹

پس کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو ⑤۹

وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ⑥۰

اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ⑥۰

وَأَنْتُمْ سَاهِدُونَ ⑥۱

اور تم کھیل رہے ہو ⑥۱

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ⑥۲

سجدة ۷ع پس اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو ⑥۲

زَكُو عَاتِهَا-۳	سُورَةُ الْقَمَرِ (مَكِّي)	أَيَاتُهَا-۵۵
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	
	شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے	

إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ ①

قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا ①

وَأِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ②

اور اگر وہ کوئی معجزہ دیکھ لیں تو اس سے منہ موڑ لیں اور کہیں ②
یہ تو ہمیشہ سے چلا آتا جادو ہے

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أُمَّرٍ مُّسْتَقَرٌّ ③

اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَرٌ ④

اور ان کے پاس وہ خبریں آچکی ہیں جن میں کافی تنبیہ ہے

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ الذُّرُّ ⑤

اور پوری دانائی بھی ہے پر ان کو ڈرانے والوں سے فائدہ نہیں پہنچا

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكْرٍ ⑥

پس ان سے منہ موڑ لے جس دن پکارنے والا ایک ناپسند چیز کے لیے پکارے گا

خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُتْتَشِرٌ ⑦

اپنی آنکھیں نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے جیسے ٹڈیاں پھیل پڑی ہوں

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ⑧

بلانے والے کی طرف بھاگے جا رہے ہوں گے یہ کافر کہہ رہے ہوں گے یہ تو بڑا ہی سخت دن ہے

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ⑨

ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا پس انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا دیوانہ ہے اور اسے جھڑک دیا گیا

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ⑩

پھر نوح نے اپنے رب کو پکارا کہ میں تو مغلوب ہو گیا تو میری مدد ⑩
کر

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ⑪

پھر ہم نے موسلا دھار پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے ⑪

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ⑫

اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے پھر جہاں تک پانی کا ⑫
چڑھاؤ چڑھنا ٹھہر چکا تھا چڑھ آیا

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوَاحِ وَذُوسُرٍ ⑬

اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا ⑬

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ⑭

جو ہماری عنایت سے چلتی تھی یہ اس کا بدلہ تھا جس کا انکار کیا ⑭
گیا تھا

وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ⑮

اور ہم نے اس کو ایک نشان بنا کر چھوڑ دیا پس کیا کوئی نصیحت ⑮
پکڑنے والا ہے

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ ⑯

پھر (دیکھا) ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا ⑩

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ⑪

اور البتہ ہم نے تو سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا پھر کوئی ⑪
ہے کہ سمجھے

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي ⑫

قوم عاد نے بھی جھٹلایا تھا پھر (دیکھا) ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا ⑫
تھا

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ⑬

بے شک ہم نے ایک دن سخت آندھی بھیجی تھی جس کی نحوست ⑬
دائمی تھی

تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ⑭

جو لوگوں کو ایسا پھینک رہی تھی کہ گویا وہ کھجور کے جڑ سے ⑭
اکھڑے ہوئے پیڑ ہیں

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي ⑮

پھر (دیکھا) ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا ⑮

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ⑯

اور البتہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے پھر ہے ⑯
کوئی کہ سمجھے

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ②③

قوم ثمود نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا تھا ②③

فَقَالُوا أَبَشْرًا مِثَّنَا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ ۗ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ②④

پس کہا کیا ہم اپنے میں سے ایک آدمی کے کہنے پر چلیں گے تب تو ②④
ہم ضرور گمراہی اور دیوانگی میں جا پڑیں گے

ءَأَلْقَى الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ ②⑤

کیا ہم میں سے اسی پر وحی بھیجی گئی بلکہ وہ بڑا جھوٹا (اور) ②⑤
شیخی خورہ ہے

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَّابِ الْأَشِرِّ ②⑥

عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کون بڑا جھوٹا (اور) شیخی خورہ ②⑥
ہے

إِنَّا مُرْسَلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ②⑦

بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں پس (اے) ②⑦
(صالح) ان کا انتظار کر اور صبر کر

وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۗ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ ②⑧

اور ان سے کہہ دو کہ پانی ان میں بٹ گیا ہے ہر ایک اپنی باری سے ②⑧
پانی پلایا کرے

فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ②⑨

پھر انہوں نے اپنے رفیق کو بلایا تب اس نے ہاتھ بڑھایا اور (اس) 29
کی کانچیں کاٹ ڈالیں

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ 30

پھر (دیکھا) ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا 30

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ 31

بے شک ہم نے ان پر ایک زور کی چیخ کا عذاب بھیجا پھر وہ ایسے 31
ہو گئے جیسا کانٹوں کی باڑ کا چورا

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ 32

اور البتہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے پھر ہے 32
کوئی سمجھنے والا

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ 33

قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا تھا 33

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ 34

بے شک ہم نے ان پر پتھر برسائے سوائے لوط کے گھر والوں کے 34
ہم نے انہیں پچھلی رات نجات دی

نِعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ 35

یہ ہماری طرف سے فضل ہے جو شکر کرتا ہے ہم اسے ایسا ہی بدلہ 35
دیا کرتے ہیں

وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ③٦

اور وہ انہیں ہماری پکڑ سے ڈرا چکا تھا پس وہ ڈرانے میں شک ③٦
کرنے لگے

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِي ③٧

اور البتہ اس سے اس کے مہمانوں کا مطالبہ کرنے لگے تو ہم نے ان ③٧
کی آنکھیں مٹا دیں پس (کہا) میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ
چکھو

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمُ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ③٨

اور بے شک صبح کو ان پر ایک عذاب نہ ٹلنے والا آپڑا ③٨

فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِي ③٩

پس میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو ③٩

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ④٠

اور البتہ ہم نے سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے پھر بے ④٠
وع کوئی سمجھنے والا

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ④١

اور البتہ فرعون کے خاندان کے پاس بھی ڈرانے والے آئے تھے ④١

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ④٢

انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلایا پھر ہم نے انہیں بڑی ④۲
زبردست پکڑ سے پکڑا

أَكْفَأُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أَوْلِيكُمُ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ④۳
کیا تمہارے منکر ان لوگوں سے اچھے ہیں یا تمہارے لیے کتابوں ④۳
میں نجات لکھی ہے

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرُونَ ④۴
کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم زبردست جماعت ہیں ④۴

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ④۵
عنقریب یہ جماعت بھی شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں ④۵
گے

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ④۶
بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت زیادہ دہشت ناک اور ④۶
تلخ تر ہے

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ ④۷
بے شک مجرم گمراہی اور جنون میں ہیں ④۷

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ④۸
جس دن اپنے منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے (کہا جائے ④۸
گا) آگ لگنے کا مزہ چکھو

إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۝⁴⁹

بے شک ہم نے ہر چیز اندازے سے بنائی ہے ۝⁴⁹

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ۝⁵⁰

اور ہمارا حکم تو ایک ہی بات ہوتی ہے جیسا کہ پلک جھپکنا ۝⁵⁰

وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّاكِرٍ ۝⁵¹

اور البتہ ہم تمہارے جیسوں کو غارت کر چکے ہیں پھر کیا کوئی ۝⁵¹
سمجھنے والا ہے

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ۝⁵²

اور پھر جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وہ اعمال ناموں میں موجود ۝⁵²
ہے

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ۝⁵³

اور ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھا ہوا ہے ۝⁵³

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۝⁵⁴

بے شک پرہیزگار باغوں اور نہروں میں ہوں گے ۝⁵⁴

فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝⁵⁵

۱۰۔ عزت کے مقام میں قادر مطلق بادشاہ کے حضور میں ۝⁵⁵

الرَّحْمٰنُ ①

رحمن ہی نے ①

عَلَّمَ الْقُرْآنَ ②

قرآن سکھایا ②

خَلَقَ الْاِنْسَانَ ③

اس نے انسان کو پیدا کیا ③

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ④

اسے بولنا سکھایا ④

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ⑤

سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں ⑤

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ⑥

اور بیلین اور درخت سجدہ کر رہے ہیں ⑥

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ⑦

اور آسمان کو اسی نے بلند کر دیا اور ترازو قائم کی ⑦

اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ⑧

تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو ⑧

وَاقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ⑨

اور انصاف سے تولو اور تول نہ گھٹاؤ ⑨

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ⑩

اور اس نے خلقت کے لیے زمین کو بچھا دیا ⑩

فِيهَا فَاكِهَةٌ ⑪ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ⑪

اس میں میوے اور غلافوں والی کھجوریں ہیں ⑪

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ⑫

اور بھوسے دار اناج اور پھول خوشبو دار ہیں ⑫

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ⑬

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ⑬

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ⑭

اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجاتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ⑭

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ⑮

اور اس نے جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ⑮

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ⑯

پھر تم (اے جن و انس) اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ⑯

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ⑰

وہ دونوں مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے ﴿۱۷﴾

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۱۸﴾

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ﴿۱۸﴾

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِينِ ﴿۱۹﴾

اس نے دو سمندر ملا دیئے جو باہم ملتے ہیں ﴿۱۹﴾

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِينَ ﴿۲۰﴾

ان دونوں میں پردہ ہے کہ وہ حد سے تجاوز نہیں کر سکتے ﴿۲۰﴾

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۲۱﴾

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ﴿۲۱﴾

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿۲۲﴾

ان دونوں میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے ﴿۲۲﴾

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۲۳﴾

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ﴿۲۳﴾

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿۲۴﴾

اور سمندر میں پہاڑوں جیسے کھڑے ہوئے جہاز اسی کے ہیں ﴿۲۴﴾

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۲۵﴾

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ﴿۲۵﴾

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝^{٢٦}

جو کوئی زمین پر ہے فنا ہو جائے والا ہے ۝^{٢٦}

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝^{٢٧}

اور آپ کے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو بڑی شان اور ۝^{٢٧}
عظمت والا ہے

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝^{٢٨}

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ۝^{٢٨}

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۝^{٢٩}

اس سے مانگتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں ہر روز وہ ایک ۝^{٢٩}
کام میں ہے

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝^{٣٠}

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ۝^{٣٠}

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَيْنِ ۝^{٣١}

اے جن و انس ہم تمہارے لیے جلد ہی فارغ ہو جائیں گے ۝^{٣١}

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝^{٣٢}

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ۝^{٣٢}

يَمْعَشَرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
فَأَنْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ۚ

اے جنوں اور انسانوں کے گروہ اگر تم آسمانوں اور زمین کی حدود ۳۳ سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ تم بغیر زور کے نہ نکل سکو گے ((اور وہ ہے نہیں

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۚ

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ۳۴

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۖ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرِينَ ۚ

تم پر آگے کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا پھر تم بچ نہ سکو گے ۳۵

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۚ

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ۳۶

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۚ

پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور پھٹ کر گلابی تیل کی طرح سرخ ۳۷ ہو جائے گا

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۚ

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ۳۸

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ۚ

پس اس دن اپنے گناہ کی بات نہ کوئی انسان اور نہ کوئی جن پوچھا ③۹
جائے گا

فِي أَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكذِّبِينَ ④۰

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ④۰

يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ④۱

مجرم اپنے چہرے کے نشان سے پہچانے جائیں گے پس پیشانی کے ④۱
بالوں اور پاؤں سے پکڑے جائیں گے

فِي أَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكذِّبِينَ ④۲

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ④۲

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ④۳

یہی وہ دوزخ ہے جسے مجرم جھٹلاتے تھے ④۳

يُطَوَّفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آتِنِ ④۴

گناہ گار جہنم میں اور کھولتے ہوئے پانی میں تڑپتے پھریں گے ④۴

فِي أَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكذِّبِينَ ④۵

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ④۵

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ④۶

اور اس کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے ④۶
دو باغ ہوں گے

فَيَأْتِي الْآءِ رَبُّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿٤٧﴾

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ﴿٤٧﴾

ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾

جن میں بہت سی شاخیں ہوں گی ﴿٤٨﴾

فَيَأْتِي الْآءِ رَبُّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿٤٩﴾

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ﴿٤٩﴾

فِيهِمَا عَيْنِينَ تَجْرِيْنَ ﴿٥٠﴾

ان دونوں میں دو چشمے جاری ہوں گے ﴿٥٠﴾

فَيَأْتِي الْآءِ رَبُّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿٥١﴾

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ﴿٥١﴾

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَيْنِ ﴿٥٢﴾

ان دونوں میں ہر میوہ کی دو قسمیں ہوں گی ﴿٥٢﴾

فَيَأْتِي الْآءِ رَبُّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿٥٣﴾

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ﴿٥٣﴾

مُتَّكِنِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَّأْنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾

ایسے فرشتوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے کہ جن کا استر مخملی ﴿٥٤﴾

ہوگا اور دونوں باغوں کا میوہ جھک رہا ہوگا

فِي أَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تُكذِّبِينَ ﴿٥٥﴾

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ﴿٥٥﴾

فِي هُنَّ قَصْرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٦﴾

ان میں نیچی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی نہ تو انہیں ان سے پہلے ﴿٥٦﴾
کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے چھوا ہوگا

فِي أَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تُكذِّبِينَ ﴿٥٧﴾

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ﴿٥٧﴾

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾

گویا کہ وہ یاقوت اور مونگا ہیں ﴿٥٨﴾

فِي أَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تُكذِّبِينَ ﴿٥٩﴾

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ﴿٥٩﴾

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے ﴿٦٠﴾

فِي أَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تُكذِّبِينَ ﴿٦١﴾

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ﴿٦١﴾

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَيْنِ ﴿٦٢﴾

اور ان دو کے علاوہ اور دو باغ ہوں گے ﴿٦٢﴾

فِي أَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تُكذِّبُونَ ﴿٦٣﴾

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ﴿٦٣﴾

مُدْهَامَّتِنِ ﴿٦٤﴾

وہ دونوں بہت ہی سبز ہوں گے ﴿٦٤﴾

فِي أَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تُكذِّبُونَ ﴿٦٥﴾

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ﴿٦٥﴾

فِيهِمَا عَيْنِنِ نَضَّخْتِنِ ﴿٦٦﴾

ان دونوں میں دو چشمے ابلتے ہوئے ہوں گے ﴿٦٦﴾

فِي أَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تُكذِّبُونَ ﴿٦٧﴾

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ﴿٦٧﴾

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾

ان دونوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے ﴿٦٨﴾

فِي أَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تُكذِّبُونَ ﴿٦٩﴾

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ﴿٦٩﴾

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾

ان میں نیک خوبصورت عورتیں ہوں گی ﴿٧٠﴾

فِي أَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تُكذِّبُونَ ﴿٧١﴾

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ⑦۱

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ⑦۲

وہ حوریں جو خیموں میں بند ہوں گی ⑦۲

فِي أَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تُكذِّبُونَ ⑦۳

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ⑦۳

لَمْ يَطْمِئِنُّوا إِنَّا قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِحِينَ ⑦۴

نہ انہیں ان سے پہلے کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے چھوا ہوگا ⑦۴

فِي أَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تُكذِّبُونَ ⑦۵

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ⑦۵

مُتَّكِنِينَ عَلَى رُفُوفٍ خُضِرٍ وَعَبَقَرِيِّ حِسَانٍ ⑦۶

قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جو سبز اور نہایت قیمتی نفیس ہوں گے ⑦۶

فِي أَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تُكذِّبُونَ ⑦۷

پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ⑦۷

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ⑦۸

آپ کے رب کا نام با برکت ہے جو بڑی شان اور عظمت والا ہے ⑦۸

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ①

جب واقع ہونے والی واقع ہو گی ①

لَيْسَ لَوْقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ②

جس کے واقع ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ②

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ③

پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ③

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ④

جب کہ زمین بڑے زور سے ہلائی جائے گی ④

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ⑤

اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چورا ہو جائیں گے ⑤

فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ⑥

سو وہ غبار ہو کر اڑتے پھریں گے ⑥

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ⑦

اور (اس وقت) تمہاری تین جماعتیں ہو جائیں گی ⑦

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ⑧ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ⑧

پھر داہنے والے کیا خوب ہی ہیں داہنے والے ⑧

وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ^ه مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ^ط ⑨

اور بائیں والے کیسے برے ہیں بائیں والے ⑨

وَالسَّبِقُونَ^ج السَّبِقُونَ^ل ⑩

اور سب سے اول ایمان لانے والے سب سے اول داخل ہونے والے ⑩
ہیں

أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ^ج ⑪

وہ اللہ کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں ⑪

فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ⑫

نعمت کے باغات ہوں گے ⑫

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ^ل ⑬

پہلوں میں سے بہت سے ⑬

وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ^ط ⑭

اور پچھلوں میں سے تھوڑے سے ⑭

عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ^ل ⑮

تختوں پر جو جڑاؤ ہوں گے ⑮

مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِلِينَ ⑯

آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے ⑯

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾

ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے آمد و رفت کیا کریں گے ﴿١٧﴾

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ ۖ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿١٨﴾

آبخورے اور آفتابے اور ایسا جام شراب لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا ﴿١٨﴾

لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ﴿١٩﴾

نہ اس سے ان کو دردِ سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فتور آئے گا ﴿١٩﴾

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾

اور میوے جنہیں وہ پسند کریں گے ﴿٢٠﴾

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾

اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو گا ﴿٢١﴾

وَحُورٍ عِينٍ ﴿٢٢﴾

اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ﴿٢٢﴾

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾

جیسے موتی کئی تہوں میں رکھے ہوئے ہوں ﴿٢٣﴾

جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

بدلے اس کے جو وہ کیا کرتے تھے ②④

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيَمًا ②⑤

وہ وہاں کوئی لغو اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے ②⑤

إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ②⑥

مگر سلام سلام کہنا ②⑥

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ②⑦ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ②⑦

اور داہنے والے کیسے اچھے ہوں گے داہنے والے ②⑦

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ②⑧

وہ بے کانتوں کی بیڑیوں میں ہوں گے ②⑧

وَوَطْحٍ مَّنْضُودٍ ②⑨

اور گتھے ہوئے کیلوں میں ②⑨

وَوَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ③①

اور لمبے سایوں میں ③①

وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ③②

اور پانی کی آبشاروں میں ③②

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ③③

اور بافراط میوں میں ③③

لَا مَقْطُوعَةَ وَلَا مَمْنُوعَةَ^{٣٣}

جونہ کبھی منقطع ہوں گے اور نہ ان میں روک ٹوک ہو گی^{٣٣}

وَأَفْرِشٍ مَّرْفُوعَةٍ^{٣٤}

اور اونچے فرشتوں میں^{٣٤}

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً^{٣٥}

بے شک ہم نے انہیں (حوروں کو) ایک عجیب انداز سے پیدا کیا ہے^{٣٥}

فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا^{٣٦}

پس ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے^{٣٦}

عُرْبًا أَثْرَابًا^{٣٧}

دل لبھانے والی ہم عمر بنایا ہے^{٣٧}

لِلْأَصْحَابِ الْيَمِينِ^{٣٨}

داہنے والوں کے لیے^{٣٨}

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ^{٣٩}

بہت سے پہلوں میں سے ہوں گے^{٣٩}

وَأُثْلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ^{٤٠}

اور بہت سے پچھلوں میں سے^{٤٠}

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ^{٤١} مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ^ط

اور بائیں والے کیسے برے ہیں بائیں والے^{٤١}

فِي سَمُومٍ^{٤٢} وَحَمِيمٍ^{٤٢}

وہ لووں اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے^{٤٢}

وَوَظِلٍّ^{٤٣} مِّنْ يَّحْمُومٍ^{٤٣}

اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں^{٤٣}

لَّا بَارِدٍ^{٤٤} وَلَا كَرِيمٍ^{٤٤}

جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ راحت بخش^{٤٤}

إِنَّهُمْ^{٤٥} كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ^{٤٥}

بے شک وہ اس سے پہلے خوش حال تھے^{٤٥}

وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ^{٤٦}

اور بڑے گناہ (شرک) پر اصرار کیا کرتے تھے^{٤٦}

وَكَانُوا يَقُولُونَ^{٤٧} أَيُّدَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ؕ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ^{٤٧}

اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے

أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ^{٤٨}

اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی^{٤٨}

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾

کہہ دو بے شک پہلے بھی اور پچھلے بھی ﴿٤٩﴾

لَمَجْمُوعُونَ ۗ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾

ایک معین تاریخ کے وقت پر جمع کیے جاویں گے ﴿٥٠﴾

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾

پھر بے شک تمہیں اے گمراہو جھٹلانے والو ﴿٥١﴾

لَا تَكُونُ مِن شَجَرٍ مِّن زُقُومٍ ﴿٥٢﴾

البتہ تھوہر کا درخت کھانا ہوگا ﴿٥٢﴾

فَمَلِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٣﴾

پھر اس سے پیٹ بھرنے ہوں گے ﴿٥٣﴾

فَشْرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾

پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا ﴿٥٤﴾

فَشْرِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ ﴿٥٥﴾

پھر پینا ہوگا پیاسے اونٹوں کا سا پینا ﴿٥٥﴾

هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٦﴾

قیامت کے دن یہ ان کی مہمانی ہو گی ﴿٥٦﴾

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٧﴾

ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے پس کیوں تم تصدیق نہیں کرتے ﴿۵۷﴾

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿۵۸﴾

بھلا دیکھو (تو) (منی) جو تم ٹپکاتے ہو ﴿۵۸﴾

ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهَا أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿۵۹﴾

کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں ﴿۵۹﴾

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿۶۰﴾

ہم نے ہی تمہارے درمیان موت مقرر کر دی ہے اور ہم عاجز نہیں ہیں

عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۶۱﴾

اس بات سے کہ ہم تم جیسے لوگ بدل لائیں اور تمہیں ایسی صورت میں بنا کھڑا کریں جو تم نہیں جانتے

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۶۲﴾

اور تم پہلی پیدائش کو جان چکے ہو پھر کیوں تم غور نہیں کرتے ﴿۶۲﴾

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿۶۳﴾

بھلا دیکھو جو کچھ تم بولتے ہو ﴿۶۳﴾

ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهَا أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿۶۴﴾

کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں ﴿۶۴﴾

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾

اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں پھر تم تعجب کرتے رہ جاؤ ﴿٦٥﴾

إِنَّا لَمُعْرَمُونَ ﴿٦٦﴾

کہ بے شک ہم پر تو تاوان پڑ گیا ﴿٦٦﴾

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾

بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے ﴿٦٧﴾

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾

بھلا دیکھو تو سہی وہ پانی جو تم پیتے ہو ﴿٦٨﴾

ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾

کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں ﴿٦٩﴾

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں پس کیوں تم شکر نہیں کرتے ﴿٧٠﴾

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾

بھلا دیکھو تو سہی وہ آگ جو تم سلگاتے ہو ﴿٧١﴾

ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ﴿٧٢﴾

کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں ﴿٧٢﴾

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرَةً وَرَمْتَنَا لِلْمُقْوِينَ ۗ (73)

ہم نے اسے یادگار اور مسافروں کے لیے فائدہ کی چیز بنا دیا ہے (73)

الغلاۃ ۱۵ ع فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۙ (74)

ع ۱۵ الغلاۃ پس اپنے رب کے نام کی تسبیح کر جو بڑا عظمت والا ہے (74)

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ۙ (75)

پھر میں تاروں کے ڈوبنے کی قسم کھاتا ہوں (75)

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۙ (76)

اور بے شک اگر سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے (76)

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۙ (77)

کہ بے شک یہ قرآن بڑی شان والا ہے (77)

فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ۙ (78)

ایک پوشیدہ کتاب میں لکھا ہوا ہے (78)

لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۙ (79)

جسے بغیر پاکوں کے اور کوئی نہیں چھوتا (79)

تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۙ (80)

پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوا ہے (80)

أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ۙ (81)

سو کیا تم اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو ⑧۱

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ ⑧۲

اور اپنا حصہ تم یہی لیتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو ⑧۲

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ⑧۳

پھر کس لیے روح کو روک نہیں لیتے جب کہ وہ گلے تک آ جاتی ہے ⑧۳

وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ⑧۴

اور تم اس وقت دیکھا کرتے ہو ⑧۴

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ⑧۵

اور تم سے زیادہ ہم اس کے قرب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے ⑧۵

فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ⑧۶

پس اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے ⑧۶

تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑧۷

تو تم اس روح کو کیوں نہیں لوٹا دیتے اگر تم سچے ہو ⑧۷

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ⑧۸

پھر (جب قیامت آئے گی) اگر وہ مقربین میں سے ہے ⑧۸

فَرَوْحٌ وَرَیْحَانٌ ۝ وَجَنَّتْ نَعِيمٍ ⑧۹

تو (اس کے لیے) راحت اور خوشبو میں اور عیش کی باغ ہیں ﴿۸۹﴾

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿۹۰﴾

اور اگر وہ داہنے والوں میں سے ہے ﴿۹۰﴾

فَسَلَّمَ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿۹۱﴾

تو اے شخص تو جو داہنے والوں میں سے ہے تجھ پر سلام ہو ﴿۹۱﴾

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿۹۲﴾

اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے ﴿۹۲﴾

فَنُزِّلُ مِنْ حَمِيمٍ ﴿۹۳﴾

تو کھولتا ہوا پانی مہمانی ہے ﴿۹۳﴾

وَتَصْلِيَةٌ جَحِيمٍ ﴿۹۴﴾

اور دوزخ میں داخل ہونا ہے ﴿۹۴﴾

إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿۹۵﴾

بے شک یہ تحقیقی یقینی بات ہے ﴿۹۵﴾

ع۱۱ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿۹۶﴾

ع۱۲ پس اپنے رب کی نام تسبیح کر جو بڑا عظمت والا ہے ﴿۹۶﴾

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①

اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور ①
وہ زبردست حکمت والا ہے

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ②

آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے ہے وہ زندہ کرتا ہے اور ②
مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ③

وہی سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور ظاہر اور پوشیدہ ہے اور ③
وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ يَعْلَمُ مَا

يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ

مَعَكُمْ أَيَّنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ④

وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں بنایا پھر وہ عرش ④
پر قائم ہوا وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس
سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں اوپر
چڑھتی ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو اور اللہ اس کو جو
تم کرتے ہو دیکھتا ہے

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَإِلَىٰ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ⑤

آسمانوں اور زمین کی حکومت اسی کے لیے ہے اور سب امور اللہ ہی ⑤
کی طرف لوٹائے جاتے ہیں

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑥

وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے ⑥
اور وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے

أٰمِنُوٓا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوٓا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوٓا مِنْكُمْ
وَاَنْفَقُوٓا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ⑦

اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس میں سے خرچ کرو جس ⑦
میں اس نے تمہیں پہلوں کا جانشین بنایا ہے پس جو لوگ تم میں سے
ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اٰخَذَ
مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ⑧

اور تمہیں کیا ہوا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور رسول تمہیں تمہارے ⑧
رب پر ایمان لانے کے لیے بلا رہا ہے اور تم سے عہد بھی لے چکا ہے
اگر تم ایمان لانے والے ہو

هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖ اٰیٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ
بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ⑨

وہی ہے جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ ⑨
تمہیں اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لائے اور بے شک اللہ تم

پر بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي
مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۗ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا
مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۗ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۰

اور تمہیں کیا ہو گیا جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ ⑩
آسمانوں اور زمین کا ورثہ تو اللہ ہی کے لیے ہے تم میں سے اور کوئی
اس کے برابر ہو نہیں سکتا جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور
جہاد کیا یہ ہیں کہ اللہ کے نزدیک جن کا بڑا درجہ ہے ان لوگوں پر ہے
جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا اور اللہ نے ہر ایک سے نیک
عجزا کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝۱۱
ایسا کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے پھر وہ اس کو اس کے لیے ⑪
دگنا کر دے اور اس کے لیے عمدہ بدلہ ہے

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ
بُشْرُكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ۝۱۲

جس دن آپ ایماندار مردوں اور عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ⑫
ان کے سامنے اور ان کے داہنے دوڑ رہا ہوگا تمہیں آج ایسے باغوں

کی خوشخبری ہے کہ ان کے نیچے نہریں چلتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ
رہیں گے یہی وہ بڑی کامیابی ہے

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ
ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ
الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ⑬

جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان سے کہیں گے جو ایمان لائے ⑬
ہیں کہ ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی لے لیں کہا
جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ پھر روشنی تلاش کرو پس ان کے
درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہو گا
اس کے اندر تو رحمت ہو گی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہو گا

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ

وَأَمَّرْتُمْ وَعَغَرْتُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ⑭

وہ انہیں پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے وہ کہیں گے کیوں ⑭
نہیں لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں ڈالا اور راہ دیکھتے اور شک
کرتے رہے اور تمہیں آرزوؤں نے دھوکہ دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ
پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں شیطان نے دھوکہ دیا

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ

وَبئس المصير ⑮

پس آج نہ تم سے کوئی تاوان لیا جائے گا اور نہ ان سے جنہوں نے ﴿۱۵﴾
انکار کیا تھا تمہارا سب کا ٹھکانا دوزخ ہے وہی تمہارا رفیق ہے
اور بہت ہی بری جگہ ہے

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا
يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ
وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿۱۶﴾

﴿۱۶﴾ کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی
نصیحت اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں اور
ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب (آسمانی) ملی
تھی پھر ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان
میں سے بہت سے نافرمان ہیں

إِغْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۷﴾
﴿۱۷﴾ اور جان لو کہ اللہ ہی زمین کو اس کے مرنے پیچھے زندہ کرتا ہے ہم
نے تو تمہارے لیے کھول کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ تم
سمجھو

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ
كَرِيمٌ ﴿۱۸﴾

﴿۱۸﴾ بے شک خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں
اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے لیے دگنا کیا جائے گا اور
انہیں عمدہ بدلہ ملے گا

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّٰدِقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ
 أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۙ^ع
 اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ اپنے^{۱۹}
 رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لیے ان کا اجر اور ان کی
 روشنی ملے گی اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہی
 ۱۸ع لوگ دوزخی ہیں

إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ ۖ وَلَهُوٌ ۖ وَزِينَةٌ ۖ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ ۖ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ
 وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مِصْفَرًا ۖ ثُمَّ يَكُوْنُ
 حُطْمًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۖ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۖ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا
 إِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُوْرِ ۙ^{۲۰}

جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زیبائش اور^{۲۰}
 ایک دوسرے پر آپس میں فخر کرنا اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد
 میں زیادتی چاہنا ہے جیسے بارش کی حالت کہ اس کی سبزی نے
 کسانوں کو خوش کر دیا پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تو اسے زرد شدہ
 دیکھتا ہے پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب
 ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے اور دنیا کی زندگی
 سوائے دھوکے کے اسباب کے اور کیا ہے

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ
لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ ②١

اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف جس کا ②١
عرض آسمان اور زمین کے عرض کے برابر ہے ان کے لیے تیار کی
گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہ اللہ کا فضل ہے
وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ
نُزِّلَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ②٢

جو کوئی مصیبت زمین پر یا خود تم پر پڑتی ہے وہ اس سے پیشتر کہ ②٢
ہم اسے پیدا کریں کتاب میں لکھی ہوتی ہے بے شک یہ اللہ کے نزدیک
آسان بات ہے

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ
فَخُورٍ ②٣

تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر رنج نہ کرو اور جو ②٣
تمہیں دے اس پر اتراؤ نہیں اور اللہ کسی اترانے والے شیخی خورے کو
پسند نہیں کرتا

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں ﴿24﴾
 اور جو کوئی منہ موڑے تو اللہ بھی بے پرواہ خوبیوں والا ہے

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
 بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
 ۞ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿25﴾

البتہ ہم نے اپنے رسولوں کو نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ہمراہ ﴿25﴾
 ہم نے کتاب اور ترازوئے (عدل) بھی بھیجی تاکہ لوگ انصاف کو قائم
 رکھیں اور ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں سخت جنگ کے سامان
 اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں اور تاکہ اللہ معلوم کرے کہ کون اس کی
 اور اس کے رسولوں کی غائبانہ مدد کرتا ہے بے شک اللہ بڑا زور آور
 ۱۹ع غالب ہے

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ
 وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿26﴾

اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا تھا اور ہم نے ان دونوں کی اولاد ﴿26﴾
 میں نبوت اور کتاب رکھی تھی پس بعض تو ان میں راہِ راست پر رہے
 اور بہت سے ان میں سے نافرمان ہیں

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ ۗ وَجَعَلْنَا
 فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ۗ وَرَهَابَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا

ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٢٧﴾

پھر اس کے بعد ہم نے اپنے اور رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم ﴿٢٧﴾ کو بعد میں بھیجا اور اسے ہم نے انجیل دی اور اس کے ماننے والوں کے دلوں میں ہم نے نرمی اور مہربانی رکھ دی اور ترک دنیا جو انہوں نے خود ایجاد کی ہم نے وہ ان پر فرض نہیں کی تھی مگر انہوں نے رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا پس اسے نباہ نہ سکے جیسے نباہنا چاہیئے تھا تو ہم نے انہیں جو ان میں سے ایمان لائے ان کا اجر دے دیا اور بہت سے تو ان میں بدکار ہی ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ
لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٨﴾

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ وہ تمہیں ﴿٢٨﴾ اپنی رحمت سے دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں ایسا نور عطا کرے گا تم اس کے ذریعہ سے چلو اور تمہیں معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے

لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَّا يَخْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ
اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ (مسلمان) اللہ کے فضل میں سے کچھ ﴿٢٩﴾ بھی حاصل نہیں کر سکتے اور یہ کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے ۲۰۔ جس کو چاہے دے اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے

